

15. AL-HIJR (BUTEW)

Suet ke-15: 99 ayat

Ngen sebut gen Allah Maho Pengasiak,
Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Alif Lam Ra (suet) dio adeba (bagian kunai) ayat-ayat Al kitab (gi sempurno) do-o-ba (ayat-ayat) Al-Quran gi mele-i penjelasan.

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾

JUZ XIV

2. Tun-tun gi kafir awit (nak akherat be) bekelak, kiro-ne bel-o (nak dunio) ijei tun-tun muslim.

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

3. Kunyeu ba kapeak-o (nak dunio yo) mei ngen senang-senang ngen nlalai oleh angan-angan (kosong), mako kepeak-o be namen (akibat perbuatan ne)

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ ﴿٣﴾

4. Dan keme coa membinaso suatu negerei pun, melen baa de bagei ne ketentuan maso gi sudo tetap.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهِيَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾

5. Coa ade sesuatu umat pun dapet demete ajal ne, ngen coa (pulo) dapet munur ne.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ ﴿٥﴾

6. Kapeak-o madeak” oi tun gi temu-un Al-quran ngen ne, sesungguhnya ne udi benea-benea tun gi gilo”.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

7. gen tei udi coa temko malaikat ngen keme, tengen udi termasuk tun-tun gi benea.

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

8. Keme coa temu-un malaikat ngen benea (utuk mbin azab) ngen coa ba kapeak-o waktau-o nlei ketegasan.

مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿٨﴾

9. Sesungguhnya ne keme ba temu-un Al Quran, sesungguhnya ne keme benea-benea memeliharone.
10. Sesungguhnya ne keme sudo mutus (kedeu-kedeu Rasul) sebelum udi ngen umat-umat gi dete.
11. Coa teko dikup Rasul pun ngen kapeak-o, leyen ba kapeak-o selalu mimak ne.
12. Demikian ba, keme memasuk (asei ingkar ngen kimak-o) nak lem atei tun-tun gi beduso (kafir).
13. Kapeak-o coa be imen ngen Al Quran, sesungguhnya ne sudo dete sunatullah tehadep tun-tun bidete.
14. Bilo seandai-ne keme mukak ngen kapeak-o salah satu kunai (bang-bang) lenget, lalu kapeak-o terus menerus be-knek mai mindas ne.
15. Pasti kapeak-o madeak “sesungguhnya ne pandangan keme- ba gi kenabur, bahkan keme adeba tun-tun gi keno sihir.
16. sesungguhnya-ne keme sudo menea gugusan bitang-bitang (nak lenget) dan keme sudo mrias lenget-o bagei tun-tun gi kemleak (Ne).
17. Keme jemago ne kanai tip-tip setan gi terkutuk.
18. Kecuali setan gi maling-maling (berita) gi dapet ten goa (kunai malaikat) sudo-o si knejar oleh semoran opoi gi te-ang.
19. dan keme sudo Mape-a lenget dan menea
- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾
- وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾
- كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾
- لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
- وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾
- لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾
- وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾
- وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾
- إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾
- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا

<p>ngen ne gunung-gunung dan keme temmo-ak ngen ne kete sesuatu menurut aturan.</p>	<p>فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٨﴾</p>
<p>20. Keme sudo menea utuk nu nak bumei kebutuhan idup (keme menea pulo) mahluk-mahluk gi udi gidebat coa melei rezkei ngen Ne.</p>	<p>وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾</p>
<p>21. Coa ade sesuatu pun leyen ba ngen sisi keme-baKhazana ne dan keme coa temu-un ne seleyen ngen ukuran gi tenteu.</p>	<p>وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾</p>
<p>22. Keme sudo te-miup angina utuk mike-ak (tumbuh-tumbuhan) dan keme temu-un ujen kunai lenget lalu keme mlei bioa nu ngen bioa-o dan gi debat iso ba udi gi maik ne.</p>	<p>وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَّاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾</p>
<p>23. Sesungguhnya ne benea-benea keme ba gi midup ngen monoak dan keme (pulo ba) gi moneak ne.</p>	<p>وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾</p>
<p>24. sesungguhnya ne keme sudo namen tun-tun gi bel-o kunai nu dan sesungguhnya ne keme namen pulo tun-tun gi sudo yo (kunai nu).</p>	<p>وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾</p>
<p>25. Sesungguhnya ne tuhan nu, Si-ba gi kemopoa kapeak-o. sengguh ne Si adeba maha bijaksano igei maha namen.</p>	<p>وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ تَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾</p>
<p>26. sesungguhnya ne keme sudo menea manusio (adam) kunai taneak liyet ke-ing (gi kunai) lucak meleu gin ea bentuk.</p>	<p>وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾</p>
<p>27. Keme sudo menea Jin sebelum (adam) kunai opoi gi panes nien.</p>	<p>وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴿٢٧﴾</p>
<p>28. Dan (ninget ba) te-ngen Tuhan nu berfirman ngem kapeak malaikat “sesungguhnya uku menea manusio kunai pitak liyet ke-ingkunai lucak meleu gi</p>	<p>وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾</p>

sudo nebetuk.

29. Mako apobilo Uku sudo me-nyempurno ne, kejijei ne gi sudo temi-upnak lem roh (gi nea) Ku, mako tun duk ba udi ngen Ne besujud. فَإِذَا سَوَّيْتُهُرْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُرْ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾
30. Mako sujud ba kete malaikat besamo-samo. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾
31. Kecuali Iblis, si coa lak mileu ngen malaikat gi sujud-o إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾
32. Allah berfirman “hai Iblis jano sebab udi coa mileu sujud ngen kapeak-o gi sujud-o. قَالَ يَتَابِئِسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾
33. iblis madeak “ uku coa nged debat sujud ngen manusio gi sudo nea Nu taneak liet ke-ing kunai lucu meleu gi nebetuk. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾
34. Allah berfirman “ kaleu ba kunai surgo sesungguh ne udi tekutuk. قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾
35. sesungguh ne kutukan-o tetep kemno udi sapey bilei kiamat. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾
36. Iblis madeak “ Ya Tuhan ku (kaleu uyo) kelei ketangguhan ngen keme sapei manusio bangkit. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾
37. Allah berfirman (sesungguh ne udi termasuk tun-tun gi ne-lei ketangguhan. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾
38. Sapei bilei wakteugi sudo tenteu. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾
39. Iblis madeak “ ya Tuhan keme, gentei ko sudo mutus bahwa uku sesat, pasti uku menea kapeak-o kebaikan nak bumei yo. Pasti uku akan melimeu kapeak-o kete ne. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾
40. Kecuali hamba-hamba Nu gi muklis (antara kapeak-o) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

41. Allah berfirman, dio adeba dalen gi luus, kewajiban ku-ba jemago ne قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾
42. Sesungguhnya ne hamba-hamba ku coa ade kekuasaan bagei nu ngen kapeak-o kecuali tun-tun gi mileu udi, do-o bat un-tun sesat. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾
43. sesungguhnya ne jahannam-o benea-benea gi sudo macam ngen kapeak-o (pengikut-pengikut setan) ketene. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
44. Jahannam-o temuan tojoak bang, tip-tip bang (sudo tentap) utuk golongan gi tenteu kunai kapeak-o. هَٰذَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾
45. Sesungguhnya ne tun-tun gi betaqwa ade nak lem surgo nak ipit matei-matei bioa gi (monot). إِنَّ الْأَمْتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
46. (Nadeak ba ngen kapeak-o) masuk ba nak lem yo ngen sejahtera igei aman. أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾
47. Keme melaput kete aseidendam gi ade nak lem atei kapeak-osedang kapeak-o meraso keluarga temet skadep nak das ranjang. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾
48. Kapeak-o coa masei gi sudo nak lem ne, kapeak-o nget dbat coa gi kenelweakunai ne. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾
49. Io kulo ba ngen hamba-hamba ne bahwa sesungguhnya ne uku ba gi maha pengampun igei maha penyayang. ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾
50. sesungguhnya ne azabku ade ba gi pelgeak nien. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾
51. Kabar ba ngen kapeak-o tentang tuan-tuan ibrahim. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

52. Tengen kapeak-o masuk nak lem ne, lalu kapeak-o madeak “salam” Ibrahim madeak “sesungguhnya ne keme meraso saben ngen Nu” إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾
53. Kapeak-o madeak “dami ba udi meraso saben, sesungguhnya ne keme melei kabar riang ngen udi (laher ne dikup tun) anak semanei (baka jijej tun alim). قَالُوا لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾
54. Ibrahim madeak “jano ba udi melei kabar riang ngen ku, padahal omor ku gi lanjut, mako ngen gen akoak ca-o (pelaksanaan ne) kabar riang gi udi kmabar. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشَّرُونَ ﴿٥٤﴾
55. Kapeak-o jmawab “keme smapei kabar riang ngen udi gi benea, mako dami ba udi termasuk tun-tun gi putus asa. قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾
56. Ibrahim madeak “coa ade tun gi putus asa kunai rahmat Tuhan, kecuali tun-tun gi sesat. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾
57. Ibrahim madeak kulo “jano ba urusan udi gi penting (kunai) hai kapeak utusan. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾
58. Kapeak-o jmawab; keme sesungguhnya nemutus ngen kaum gi beduso. قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ثَمُودَ إِلَىٰ قَوْمِ مَجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾
59. Kecuali luth ngen pengikut-pengikut ne gi sesungguhnya ne. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
60. Kecuali nginyan ne, keme sudo temteu, bahwa sesungguhnya ne si-o termasuk tun-tun gi tingga (samo-samo ngen tun-tun kafir leyen ne). إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا ۖ إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْبُ ﴿٦٠﴾
61. Mako tibo kapeak utusan-o teko ngen kaum Luth, serta pengikut-pengikut ne. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾
62. Si madeak; sesungguhnya ne ade bat un-tun gi coa ken nal. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

63. Kapeak utusan jjawab; sebenea ne keme-keme yo teko ngen udi mbin azab gi selalu kapeak-o mukea. ﴿٣٤﴾ قَالُوا بَلْ جَعَلْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
64. Dan keme teko ngen udi mbin kebenea dan sesungguh ne keme betoa-betoe tun benea. ﴿٣٥﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
65. Mako aleu ba udi nak ujung kelmen ngen mbin keluargo nu, mileu ba kapeak-o kunai belakang dan damiba dikup tun antaro udi kemleak may belakang, terus ba paneu may penan gi neriteak ngen udi. ﴿٣٦﴾ فَأَسْرَبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبَعْتَ أَعْدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
66. Dan sudo keme smapei ngen ne (Luth) pekaro nak ipe kapeak-o nabis nak wakteu subuh. ﴿٣٧﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مُقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
67. Dan teko ba penduduk kota-o may umeak (luth) ngen riang(karno teko ne tamu-tamu). ﴿٣٨﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
68. Luth madeak; sesungguh ne kapeak-o ade ba tamu k; mako dami ba udi smekek uku. ﴿٣٩﴾ قَالَ إِنَّ هَتُولَاءِ ضِيفَى فَلَا تَفْضَحُونِ
69. Dan bertaqwa ba ngen Allah dan dami ba udi menea uku terhino. ﴿٤٠﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ
70. Kapeak-o madeak; dan coa ba keme sudo temgeak melindung manusio. ﴿٤١﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ
71. Luth madeak; dio ba putrid-putri (negerei) ku (nikeak ba ngen kapeak-o) bilo udi bekenea (cao halal). ﴿٤٢﴾ قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ
72. (Allah berfirman)” demi omorku (Muhammad) sesungguh ne kapeak-o terombang ambing nak lem kesesatan. ﴿٤٣﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
73. Mako kapeak-o nonoak oleh saei lek gi gemuruh, tengen matei bilei timboa. ﴿٤٤﴾ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

74. Mako keme menea senang nak das, kota-kota-o telek mimbeak, keme mujen kapeak-o ngen buteu kunai pitak tlo. فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ ﴿٧٤﴾
75. Sesungguhnya ne gi i-o benea-benea tedapet tando-tando(kekuasaan keme) bagei tun-tun gi kemleak tando-tando. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾
76. Dan sesungguhnya ne benea-benea teltak nak dalen gi maseak tetep nelitas manusio. وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾
77. Sesungguhnya ne gi i-o benea-benea tedapet tando-tando (kekuasaan Allah) bagei tun-tun gi berimen. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
78. Dan sesungguhnya ne ade ba penduduk Aikah do-o benea-bebea kaum zalim. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾
79. Mako keme monoak kapeak-o, sesungguhnya ne duei kota-o benea-benea tletak nak dalen umum gi teang. فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾
80. Dan sesungguhnya ne penduduk kota al Hijr sudo mendustakan rasul-rasul. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾
81. Keme sudo temko ngen ne tando-tando (kekuasaan) keme. Tapi kepeak-o selalu be paling ngen ne. وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾
82. Kapeak-o ma-et umeak-umeak kunai gunung-gunung buteu (gi tenunggeu) ngen aman. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾
83. Mako kapeak-o nonoak oleh saey lek gi gemuruh nak wakteu pueng. فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾
84. Mako coa dapet temulung kapeak-o, jano gi sudo kenerjo. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾
85. Coa ba keme menea lenget ngen bumei ngen jano gi ade nak antaro keduei ne meleyen ba ngen benea. Dan sesungguhnya ne saat (kiamat) pasti teko, mako maaf ke ba (kapeak-o) ngen ca-o baik. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ

الْجَمِيلِ ﴿٨٦﴾

86. Sesungguhnya ne Tuhan nu, Sib a gi maha pencipta igei maha namen.

﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

87. Sesungguhnya ne keme sudo melei ngen udi tojoak (7) ayat gi nebaco beulang-ulang dan Al Quran gi agung.

﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ

الْعَظِيمِ ﴿٨٧﴾

88. Damiba gedebat udi temunjuk, kemleak ngen keni'matan idup gi sudo keme melei ngen kedeu-kedeu nak antaro kapeak-o (tun-tun kafir), dan damiba udi besedih atei tehadap kapeak-o dan merendeak ba udi tehadap tun-tun be imen.

﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

﴿٨٨﴾

89. Kadeak ba “ sesungguh ne uku ade ba pemelei peringatan ngen jemlas ne

﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي - أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

90. Nak ipa (keme sudo melei peringatan), keme sudo temu-un (azab) ngen tun-tun gi mlei-mlei kiteb Allah.

﴿٩٠﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

91. (do-o ba) tun-tun gi sudo menea Al-Quran-o tebageak.

﴿٩١﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

92. Mako demi Tuhan nu, keme pasti temnei ngen kapeak-o kete ne.

﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

93. Tentang jano gi sudo kapeak-o kemerjo bel-o.

﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

94. Mako sapei ke ba oleh udi ca-o teang-teang jano kete gi neriteak (ngen udi) dan bepaling ba udi ngen tun-tun musyrik.

﴿٩٤﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾




95. sesungguh ne keme je mago udi kunai (kejahatan) tun-tun gi molok udi.

﴿٩٥﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

96. Do-o bat un-tun gi man gap ade ne tuhan leyen kunai Allah mako kapeak-o sudo yo akan namen (akibat-akibat ne).

﴿٩٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ

﴿٩٦﴾ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

97. Keme sungguh namen bahwa dado nu
 jjei sepit senbab jano gi kapeak-o
 madeak.  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
98. Mako betasbe ba ngen mujei Tuhan nu,
 +nak antaro tun-tun gi sujud (sholat)  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
99. Dan sembeak ba tuhan nu sapei teko ngen
 nu neyakin (ajal).  وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ